

حَمْدُ اللّٰهِ الرَّبِّ الْعَظِيمِ الْمُكَبِّرُ لِلْعَوْنَى

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حضرت علیہ وسلم کے ماں باپ مومن تھے

مصنف

فیض ملت، آفتابِ اہلسنت، امام المذاکرین، رئیسِ المصنفین
حضرت علامہ الحافظ مفتی محمد فیض احمد اویسی رضوی مدظلہ العالی

بسم اللہ الرحمن الرحيم

تعارفِ مصنف

چونکہ تصنیف کا گہرا اثر مصنف کے تعارف سے ہوتا ہے اسی لئے ابتداء مصنف کا تعارف از قلم حضرت مولانا محمد
معراج الدین شریفی مدظلہ (انڈیا) کے قلم سے پڑھئے۔
یہ تعارف ہم نے سہ ماہی "افکارِ رضا" رسالہ سے لیا ہے۔

(سہ ماہی افکارِ رضا ممبئی جولائی تا دسمبر ۲۰۰۷ء)



بسم اللہ الرحمن الرحيم

تعارفِ مصنف

تفسیر قرآن علامہ محمد فیض احمد اویسی رضوی مدظلہ العالی

اور ان کا ترجمہ روح البیان

از محمد معراج الدین شریفی - ۹۸، مغل پورہ سہرا�، بہار

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ کے شہزادہ اکبر مولانا حامد رضا خان قادری کے خلیفہ و شاگرد اور خلیفۃ اعلیٰ
حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی عظیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد رشید و جمیل روزان کے علمی و روحانی جانشین اور
مذکورہ علمائے عظام کے واسطوں سے حضرت فاضل بریلوی سے فیض یافتہ اور ان کے افکار و نظریات کے مبلغ و مشتہر،
رئیس التحریر و ملک المصنفین علامہ ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی کی شخصیت اب دنیائے سنیت میں بہت عزت و
احترام سے دیکھی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے تاحال اسلام و سنیت کی جو عظیم قلمی خدمات سرانجام دی ہیں وہ مثالی اور
قابل تقلید نمونہ عمل ہے۔ ان کی خدمات ممتاز ہی نہیں بلکہ بے نظیر بھی ہیں۔ افسوس کہ اتنی قد آور شخصیت اور روشن
ستارے کی روشنی سے اور ان کے شہہ پاروں سے ہندوستان کے سی محروم رہے ہیں اور ان کے تحریری نوادرات سے
خاطرخواہ فائدہ حاصل نہیں کر سکے۔ جبکہ علماء و فضلاء حضرات ان کی نسبت تحریر فرماتے ہیں کہ انہوں نے اب تک
ہزاروں کتب و رسائل تحریر فرمائے ہیں جن میں سے ایک ہزار سے زائد زیور طبع سے آراستہ بھی ہو چکے ہیں۔ اس وقت
وہ دنیائے اسلام و سنیت کی قرطاس و قلم کے شہنشاہ زمانہ ہیں۔ عالمی سطح پر ان کی جوانفرادی و ممتاز پہچان بنی اس کے

پیچھے ان کی دو قلمی نوادرات ہیں۔ اولًا فیوض الرحمن اردو ترجمہ تفسیر روح البیان ہے جو پندرہ مجلدات پر مشتمل اور ہر جلد تقریباً ایک ہزار صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ فاضل مترجم نے تفسیر نہ کوہ کے ترجمہ کے ساتھ ہی قرآن عظیم کا اردو ترجمہ بھی پیش کر دیا ہے اور اس طرح تراجم قرآن کی دنیا میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔

دوم حدائق بخشش کی اردو شرح ہے جو پچیس مجلدات پر پھیلی ہوئی ہے اور ہر جلد پانچ صفحات سے زائد کی ہے۔ خوش قسمتی سے آج یہ دونوں قیمتی شاہکار نقوشِ کتابت کے مرحل سے گزر کر مقبول عام و خاص ہو چکے ہیں۔

ہمارے مددوں علامہ اولیٰ صاحب مدظلہ العالیٰ کی نسبت ان کی قلمی و ارفلی اور انہماں اور تحریر کی برق رفتاری کے متعلق مولانا محمد شفیع اوکاڑوی اکادمی العالمی کراچی کے سولہویں یادگاری مجلہ میں پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب مدظلہ العالیٰ کے حوالے سے جو ایک مختصر نوٹ شامل کیا گیا ہے اُس کا مفہوم یہ ہے کہ اولیٰ صاحب نے اس زمانہ میں سب سے زیادہ کتب و رسائل تحریر فرمائے ہیں اور ان کی خصوصیت و انفرادیت اس معنی میں بھی ہے کہ وہ لکھتے لکھتے تھکتے نہیں بلکہ مزید فرحت و انبساط محسوس کرتے ہیں۔

بلاشبہ اردو و ان طبقہ کے لئے مذکورہ ترجمہ تفسیر "روح البیان" ایک عظیم ہی نہیں بلکہ اسلامی علم و معلومات کا گنجینہ خزینہ ہے۔ جانب مترجم نے اپنے ابتدائی میں جہاں ایک طرف علم تفسیر کی عظمت و اہمیت پر بہت جامع روشنی ڈالی ہے تو دوسری طرف باطل نظریات پر ہی تفسیر جیسے تفسیر ابن کثیر کی نقاب کشائی اور بطلان بھی کیا ہے۔ یہاں مجھے عربی کی مشہور و مقبول ترین تفسیر "روح البیان" کا اردو ترجمہ بنام "فیوض الرحمن" پر بات کرنی ہے۔ یہ ترجمہ سب سے پہلے پاکستان میں جزوی طور پر مکتبہ اولیٰ رضویہ کے تحت ۱۹۸۵ء میں شائع ہوا مگر ہندوستان میں اسے سب سے پہلے مکمل طور پر رضوی کتاب گھر دہلی اور کتب خانہ برکاتیہ دہلی نے مشترک بنیاد پر شائع کیا ہے سال اشاعت ۱۹۹۹ء ہے۔ ان دونوں ناشرین نے اسے شائع کر کے اور اسے پورے ملک میں پھیلا کر ایک اہم دینی ضرورت کو پورا کیا ہے اس کے لئے دونوں ادارے عوام اہل سنت کی طرف سے مبارک باد کے مستحق ہیں۔ مذکورہ ترجمہ سے علماء و عوام طلباء و مدرسین سبھی اپنے اپنے ظرف کے مطابق استفادہ کر سکیں گے۔ اس کی زبان آسان اور عام فہم ہے اس لئے عوامی افادیت کے اعتبار سے حضرت مترجم کا ایک بہت مفید و موزوں کارنامہ ہے۔ مترجم موصوف نے ترجمہ سے پہلے ابتدائیہ کے تحت سبب تالیف ترجمہ پر اپنا اظہار خیال اس طرح فرمایا ہے۔

ناکارہ و آوارہ ابوالصالح محمد فیض احمد اولیٰ رضوی غفرلہ عرض پر واڑہ ہے کہ فقیر اولیٰ نے زمانہ طالب علمی میں اپنے اکابر اہل سنت سے تفسیر روح البیان کا بہت غلغلهٴ ناتھا۔ مخالفین اہل سنت نے اسے ضعیف و غیر معتبر گردانا۔ تحصیل علوم و تکمیل فنون کے بعد ۱۳۷۱ھ / ۱۹۵۱ء میں اپنے گاؤں حامد آباد ضلع رحیم یارخان میں تعلیم و تدریس میں مشغول ہو گیا۔ انہی دونوں تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ شائع ہوا۔ عوام میں یہ تاثر پیدا کر دیا گیا کہ یہ زمانہ قدیم کی معتبر تفسیر ہے حالانکہ ابن کثیر و ابن تیمیہ کا شاگرد اور ان کے مذہب و مسلک کی خاطر سر دھڑکی بازی لگانے والا اور خارجی مسلک و مذہب کا پیروکار تھا۔ اس نے تفسیر ابن کثیر میں اہل سنت کے خلاف بہت کچھ لکھا۔ یہ تفسیر (اہل سنت و جماعت) کے عقائد کے بھی خلاف ہے اور مسلک حفیت کے بھی۔

آگے چل کر حضرت مترجم حضرت فاضل بریلوی کی نسبت اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پچاہو رکرتے ہوئے اپنی نیازمندی کا ثبوت اس طرح دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

”فقیر نے ترجمہ میں کسی قسم کی ترمیم یا اضافہ نہیں کیا مخصوص اس نیت سے کہ عوام تفسیر کے مطالعہ کے بعد خود اس نتیجہ پر پہنچیں اور سمجھیں کہ گیارہویں صدی ہجری میں عقائد و مسائل یہی تھے جن کی امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت سیدنا شاہ احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ نے چودھویں صدی ہجری میں ترجمانی کی ہے“

اس سے پہلے حضرت اولیٰ صاحب تحریر فرماتے ہیں

”فقیر کا عرصہ سے ایک جامع تفسیر تحریر کرنے کا شوق دامن گیر تھا۔ ”روح البیان“ کا مطالعہ نصیب ہوا تو اس نے میرے شوق سابق کے خوابیدہ تصورات کو بیدار کیا۔ وہی کچھ ملا جو میں تفاسیر شیعی سے چاہتا تھا کہ لغت بھی رہے، حدیث بھی اور تفسیر بھی۔ اہل ظواہر بھی فائدہ اٹھائیں، اہل تصوف بھی مستفید ہوں، محققین بھی اس سے استفادہ فرمائیں اور مبتدی حضرات بھی۔ جس طرح مدرسین کی نظروں میں منظور ہوا اسی طرح واعظین کے مطیع نظر بھی ہو۔ فقیر قلیل البهاعة و عدم الفرصة کی اتنی جرأت کہاں کہ تفسیر جیسے اہم اور مشکل فن کو اپنائے لیکن فضل ایزدی پر امید رکھ کر روح البیان کے ترجمہ کا آغاز کیم جنوری ۱۹۵۸ء میں کیا اور اختتام ۱۹۸۹ھ / ۱۹۰۹ء میں ہوا۔ یعنی ۳۱ سال کی ایک لمبی مدت صرف ہوئی اسی دوران ہزاروں کتب و رسائل بھی تصنیف ہوئے۔“

یہ تفسیر بحمدہ تعالیٰ اصول و ضوابط اور قوانین تفسیر کے عین مطابق ہے اور مخالفین حضرات اسے مخصوص اس لئے غیر گردانستہ ہیں کہ صاحب روح البیان نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اور صوفیہ کرام میں سیدنا ابن العربی اور حضرت مولا ناروم قدس سرہ کا مسلک پیش کیا ہے۔ بعینہ یہی ہمارا مدعا ہے اور مخالفین کے لئے موت اور سُم قاتل ہے۔ تفسیر ابن کثیر نہ صرف غیر مفید ہے بلکہ اس کا مطالعہ عقائد و مسائل احناف کے لئے مضر بھی ہے اور ”تفسیر تفہیم القرآن“ توماؤ رن دین کا نمونہ ہے اس کے مصنف نے اسلام کا رُخ مدینہ منورہ کے بجائے امریکہ اور انگلینڈ کی طرف موڑنا چاہا تھا جبکہ روح البیان کا مطالعہ عقائد اہل سنت و مسائل احناف کو جلا بخشے گا اور حضرت مولا ناروم و عارف باللہ سیدنا ابن العربی قدس سرہ کے عارفانہ کلام سے ارواح کوتا زگی بخشے گا۔

واضح رہے کہ روح البیان میں بکثرت جگہ جگہ عارفانہ کلام اور صوفیانہ عربی و فارسی کے اشعار مع ترجمہ مستعمل ہیں جو مولا ناروم ابن العربی، جامی، سعدی اور حافظ شیرازی وغیرہ کے کلام سے لئے گئے ہیں۔ ان اشعار کی مدد سے فہم قرآن میں بہت مدد ملتی ہے۔ اس تفسیر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں آیات الہیہ کی عالمانہ تفسیر کے علاوہ صوفیانہ تفسیر بھی ساتھ پیش کی گئی ہے۔

مترو جم مددوح کے مطابق کتاب ”اتقاق“ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی تفسیر کے لئے پندرہ علوم و فنون میں مہارت تامہ کی شرط لگائی ہے اور لکھا ہے کہ جو شخص ان پندرہ علوم و فنون میں سے کسی ایک میں بھی ناقص ہو تو اسے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا حق نہیں۔ بعض دیگر مفسرین نے پچیس علوم و فنون کی شرط لگائی ہے۔ مذکورہ پندرہ علوم و فنون کی تفصیلات اس طرح ہیں لغت عربیہ، علم الخو، علم الصرف، علم الاشتقاد، علم المعانی، علم البیان، علم

افسوس کہ آج کل بعض حضرات معمولی عربی گرامر جانے اور اردو کی دو چارکتا میں پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی تفسیر کرنے لگ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے دور میں تفسیر قرآن کی کوئی قدر ہی نہیں رہی بلکہ معاملہ اٹا ہو گیا ہے کہ تحقیقی تفاسیر کو ضعیف اور غیر تحقیقی کو قوی سمجھا جا رہا ہے مثلاً تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور تفہیم القرآن کے مقابلے میں تمام سابقہ تفاسیر کو یقین ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے ہی سابقہ تفاسیر میں ”تفسیر بزرگ“ بلند پایہ سہی مگر شرائط مذکورہ سے یکسر خالی ہے اسی لئے علمائے کرام نے فرمایا کہ تفسیر بزرگ میں تفسیر کے سوا سب کچھ ہے یعنی امام رازی علیہ الرحمۃ نے اپنی اس مشہور تفسیر میں بہترین مضامین لکھے مگر تفسیری مضامین یکسر خالی۔ ایسے ہی ”تفسیر ابن جریر“ کو علمائے کرام نے ام التفاسیر کا لقب دیا مگر وہ بھی شرائط مذکورہ پر پوری نہیں اترتی۔ اسی طرح آپ مختلف تفاسیر پڑھتے جائیں گے مگر تفسیری شرائط ان میں بہت کم ملیں گی مگر عوام اہل سنت کو یقین رکھنا چاہیے کہ ”تفسیر روح البیان“ نہایت معتبر اور مستند کتاب ہے اور اصول تفسیر کے عین مطابق ہے۔

قارئین کرام نے اب تک ”روح البیان“ اور تعارف اور اس کی عظمت و اہمیت نیز اس کی انفرادیت پر حضرت مترجم کا تبصرہ دیکھا اور پڑھا۔ اب خود حضرت مفسر یعنی صاحب روح البیان شیخ اسماعیل حقی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ کے قلم سے اس کی خصوصیات ملاحظہ فرمائیں۔

”اس تفسیر میں بکثرت وجوہ تفسیر بیان کرنے کے بجائے اختصار کو ملاحظہ رکھ کر آیات کے اصل منشاء کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی البتہ مفسرین متقدمین کی معتمد و مستند تفاسیر کا خلاصہ ضرور بیان کیا جائیگا۔ اس سے میری تفسیر کو مقبولیت حاصل ہو گی ہر آیت کے ساتھ مناسب پند و نصائح ضرور بیان کروں گا تاکہ ان سے قلوب کو جلا اور ارواح کو سرور حاصل ہو۔ موقع کے مطابق عربی فارسی کے اشعار بھی لکھوں گا تاکہ اہل دل ان سے روحانی تسکین پائیں جن تفاسیر معتبرہ اور کتب فقہ و احادیث مبارکہ کا حوالہ دوں گا حتی المقدور ان کی اصل عبارت لکھنے کی کوشش کروں گا البتہ کہیں کہیں حسب ضرورت صرف عبارات میں ترمیم و اضافہ کروں گا لیکن مطالب و مقاصد میں جبکہ بھر بھی فرق نہیں آنے دوں گا۔ بہت کم ایسے موقع آئیں گے جہاں میں اپنا نظریہ ”بقول الفقیر“ پیش کروں گا لیکن وہ بھی بحمدہ تعالیٰ کسی شیخ کامل اور معتبر ولی اللہ کی تقریر کا خلاصہ ہو گا۔

واضح رہے کہ تفسیر روح البیان کی شرح لکھنے کی مدت تیس سال ہے اور یہی مدت مدت الوجی بھی ہے۔ حضرت مفسر علیہ الرحمۃ نے اختتامیہ کے تحت تحریر فرمایا ہے کہ تفسیر کے سلسلے میں مجھے دور دراز علاقوں کے اسفار بھی کرنے پڑے اور بہت مشقیں بھی اٹھانی پڑیں مگر ساتھ ہی ساتھ تکمیل تفسیر پر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس اپنی بندگی و غلامی کا والہانہ اظہار اور شکر و احسان مندی کا نذرانہ بھی نچھا ور کیا ہے ٹھیک اس طرح حضرت مترجم موصوف نے بھی اپنی دیرینہ خواہش کی تکمیل پر اپنے پروانہ وار جذبات و احساسات کا اظہار کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام معاونین کا بھی نام بنام شکریہ ادا کیا ہے۔

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم

اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ کے والدین کریمین مومن و موحد تھے فقیر نے اس موضوع پر ایک بسی طرف کتاب لکھی ہے بنام ”ابوین مصطفیٰ“، جس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ یہ رسالہ روح البیان کے ترجمہ کے دوران ”فیوض الرحمن“ کے حاشیہ پر موجود ہے اس میں چند اضافے اور تراجمیں کر کے اسے علیحدہ شائع کیا جا رہا ہے۔

اجمالی دلیل

نبی پاک ﷺ کے والد ماجد کا نام حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا یعنی اللہ کا بندہ اور حضور ﷺ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا یعنی اللہ کی امانت رکھنے والی، دنیا کو امن دینے والی، ایمان والی۔ ان دونوں کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر مسلمان تھے مشرکوں اور کافروں کے نام ایسے نہیں ہوتے۔

نورِ محمد ﷺ حضرت آدم علیہ السلام سے پشت در پشت انبیاء و مرسیین علیہم السلام میں منتقل ہوتا ہوا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لطف مبارک میں بشری تقاضوں کے تحت نوماہ تک قیام پذیر رہا اور ان نوماہ میں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عالم خواب میں نبیوں کو یہ بشارت دیتے ہوئے سنائے کہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمہیں مبارک ہوتی ری گود میں نبیوں میں امام آرہا ہے، اولین و آخرین کا تاجدار آرہا ہے، محبوب خدا آرہا ہے۔

جب حضور ﷺ کی ولادت ہوئی تو ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس کی روشنی سے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا (مکہ میں بیٹھے ہوئے) شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ نبی آخر الزماں ﷺ کی ولادت سے قبل آپ ﷺ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ میں انتقال ہو چکا تھا اور وہاں دفن ہوئے جب سرورِ عالم ﷺ کی عمر مبارک چھ سال کی ہوئی تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ﷺ کو حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک دکھانے کے لئے مدینہ پاک لے کر آئیں واپسی پر مقامِ ابواء پر وفات پائی۔ **انا لله وانا اليه راجعون**

حضور پاک ﷺ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کھودی اور اپنے ننھے ننھے مبارک ہاتھوں سے دفن کیا۔

فقیر نے بارہا ابواء شریف حاضر ہو کر مزارِ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زیارت کی لیکن افسوس نجدی ظالموں نے مزار کو نہ صرف اکھیر پھینکا بلکہ مزار کی بے حرمتی کی اس پر فقیر نے ایک تصنیف ”مزارِ آمنہ“ کے نام سے شائع کی تاکہ اہل اسلام کو حقیقت حال سے آگاہی ہو۔

تفصیلی دلیل

فقیر نے متعدد آیات و احادیث سے کتاب ابوین مصطفیٰ ﷺ میں حضور ﷺ کے ماں باپ کا ایمان ثابت کیا۔ یہاں بھی چند آیات عرض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

(۱) الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ۝ وَتَقْلِبَكَ فِي السُّجُدِينَ ۝ (پارہ ۱۹، سورۃ الشعراء، ایت ۲۱۹، ۲۱۸)

ترجمہ: جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ اور نمازوں میں تمہارے دورے کو۔

اس آیت کی تفسیر میں ”نور الایمان“ میں ہے کہ نبی جب تم آخرات میں تہجد پڑھنے والے صحابہ کے حالات کی تفییش کے لئے مدینہ پاک کی گلیوں میں گردش فرماتے ہو ہم ملاحظہ فرماتے ہیں کہ یا جب آپ کا نور حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک پاک پشتون میں پاک شکموں میں گردش کر رہا تھا ہم دیکھتے تھے یا جب بحالت نماز تم قیام روئے وجود میں گردش کرتے ہو ہم دیکھتے ہیں یا بحالت نماز تمہاری آنکھ شریف کی گردش ملاحظہ فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھ آگے پیچھے کیاں ملاحظہ فرماتی ہے۔ مگر دوسرے معنی زیادہ قوی ہیں کیونکہ یہ سورت مکیہ ہے۔ ہجرت سے قبل نماز تہجد والوں کی تفییش حال کے لئے گردش فرمانا ثابت نہیں۔ حضور ﷺ کا یہ دورہ مدینہ منورہ میں تھا ایسے ہی جماعت سے نماز کا اہتمام بھی مدینہ پاک میں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کے تمام آباء و اجداد موسیٰ، موسیٰ، علیٰ کے عابد تھے کوئی کافر فاسق نہ تھے۔

انتباہ

اہل سنت کے سواد و سرے فرقے مثلاً نجدی، وہابی، مرزائی وغیرہ اکثر آباء و امہات النبی ﷺ بالخصوص حضرت عبداللہ و حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کافر و مشرک کہتے ہیں ایسے عقیدہ کے رو میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے چھر سائل لکھے ان کے فیض سے فقیر نے بھی چار پانچ رسائل لکھے ہیں پانچواں یہی ہدیہ قارئین کرام کی نذر ہے۔

رسول اکرم ﷺ کی نگاہِ کرم میں

حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم ﷺ کو اس آیت میں گویا یوں ارشاد فرمایا کہ

كُنْتَ بِمِرْأَةِ مَنَاحِينَ تَقْلِبُكَ فِي عَالَمِ الْأَرْوَاحِ فِي السَّاجِدِينَ بَانَ خَلْقَنَا رُوحٌ كُلُّ سَاجِدٍ مِنْ رُوحٍ كَانَ هُوَ السَّمِيعُ فِي الْأَذْلِ مَقَاتِلُكَ أَنَا سَيِّدُ الْوَلَدِ آدَمُ وَلَا فَخْرٌ لَانِ إِرْوَاحُهُمْ خَلَقْتَ مِنْ رُوحٍ كَانَ العَلِيمُ بِاسْتِحْقَاقِكَ لِهَذِهِ الْكَرَامَةِ اَنْتَهِي۔ (روح البیان جلد ۲، صفحہ ۳۱۳)

عالم ارواح میں تم ساجدین میں میرے سامنے ہو کیونکہ ہم نے ہر روح کو تمہاری روح سے پیدا فرمایا وہ اللہ تیری بات ازل میں سن رہا تھا جب تم کہو گے کہ جملہ اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس پر میں فخر نہیں کرتا وہ اس لئے کہ جملہ ارواح تیری روح سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ہی اس بزرگی و شرافت کے مستحق ہو۔

انبیاء زادہ علیٰ نبیانا وعلیهم الصلوٰۃ والسلام

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم ایک نبی علیہم السلام سے منتقل ہو کر دوسرے نبی علیہ السلام کی پشت میں تشریف لے جاتے یعنی ساجدین سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام پھر ان سے منتقل ہوئے یہاں تک انہیں اپنی ماں آمنہ نے جنا۔

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں تمام حضرات تو نبی نہ تھے پھر یہ تفسیر کیسے درست ہوگی؟

جواب

علی الاطلاق انبیاء کا ہونا مراد ہے نہ یہ کہ جملہ نسب کے لوگ۔

عقیدہ شیعہ

شیعہ کا عقیدہ ہے کہ جملہ آباء و امہات کو مومن مانتا فرض ہے اس آیت سے رافضہ نے استدلال کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جملہ آباء مومن تھے اس لئے کہ ساجد ہوتا ہی مومن ہے گویا ساجدین بول کر مومنین مراد لیا گیا ہے۔

فائدة

یہ استدلال سرسری ہے (یعنی تحقیقی نہیں)

حدیث شریف سے استدلال

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لَمْ أَذْلِلْنِي أَنْقُلْ مِنْ أَصْلَابِ الطَّاهِرِينَ إِلَى ارْحَامِ الطَّاهِرَاتِ
مِنْ أَصْحَابِ طَاهِرِينَ سَمْتَهُ مُنْتَهِيَّاً

فائدة

اس حدیث سے بھی استدلال درست نہیں کیونکہ طہارت ایمان پر دلالت نہیں کرتی بلکہ اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ میں نکاح صحیح کے ذریعے دنیا میں آیا ہوں اگرچہ وہ نکاح جاہلیت کے تھے (یعنی زنا سے نہیں بلکہ نکاح سے حلال اولاد کی حیثیت سے)

فائدة

اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علمی کے کمال کا اظہار ہے کہ تا آدم اپنے نفس کی صفائی بیان فرمادی اور تم اپنی بھی صفائی نہیں دے سکتے کہ حلالی ہو یا حرامی پھر بھی مقابلے پر ہو کہ نبوت ہے کیا؟ بس وہ بڑے بھائی ہیں۔

مزید تائید

روافض کے جواب میں ہمارے قول کی تائید اس حدیث شریف سے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

حَتَّىٰ اخْرَجْنَىٰ مِنْ بَيْنِ أَبْوَىٰ لَمْ يَلْتَقِيَا عَلَىٰ سَفَاحٍ قَطْ

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر زمانے میں ان والدین سے ظاہر فرمایا جن سے زنا کا ارتکاب نہ ہوا

فائدة

اس کے متعلق مختصر اہم نے پہلے بھی گفتگو کی ہے سورہ ابراہیم کے آخر میں یہ بحث پڑھ لیں۔

انتباہ

مسلمان پر فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف کے متعلق معمولی سی تنقیص بھی نہ کرے بلکہ جس بات

سے عوام کے بہکنے کا خیال ہواں سے بھی احتراز کرے۔

سوال

تو پھر حضور ﷺ کے آباء کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟

جواب

یہ مسئلہ اعتقادیات سے نہیں بلکہ حسن عقیدت سے متعلق ہے عقیدہ اور عقیدت میں فرق ہے۔ چنانچہ روح البیان میں ہے کہ اس سے قلب یعنی عقیدہ کا کوئی تعلق نہیں البتہ زیان سے عقیدت کا اظہار احسن طریقہ سے ہو جیے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

اس سے وہابیہ کا اہل سنت پر سے اعتراض اٹھ گیا کہ سنی لوگ حضور ﷺ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو رواض کا ہے وہابی کہتے ہیں کہ سنی راضی بھائی بھائی۔ لیکن اگر وہابی کو اگر عقل ہے تو سمجھ گیا ہو گا یہ عقیدہ راضیوں کا ہے سنیوں کا نہیں۔

عقیدہ و عقیدت میں فرق

عقیدہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے اس کا منکر کافر ہوتا ہے اور عقیدت روایات ضعیفہ بلکہ آیت قرآنیہ و احادیث نبویہ کے معمولی اشارات سے بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ اس فرق کو نہ سمجھتے ہوئے جاہل وہابی، دیوبندی بلکہ ان کے پڑھے لکھے عالم دین کھلوانے والے اہل سنت کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر کہہ اٹھتے ہیں کہ کس آیت میں ہے یا کس حدیث میں ہے؟ تجربہ کرلو! یہ ان میں عام مرض ہے تو یہ مسئلہ ایمان آباء نبی علیہ السلام بھی مجملہ انہیں عقائد یا عقیدتوں سے ہے فلاہذا اب ہمارا اور رواض کا اتحاد صرف نفس مسئلہ میں ہے اور نفس مسئلہ کے اتحاد سے بھائی بھائی نہیں بن جاتا۔ اس موضوع پر فقیر نے علیحدہ کتاب لکھی ہے اور اسی تفسیر میں پہلے بھی لکھا ہے اور اب بھی لکھتا ہے۔

مسئلہ

حضور ﷺ کے آباء و امہات حضرت عبد اللہ تا حضرت آدم علیہ السلام اور از حضرت حواتا آمنہ رضی اللہ عنہمین سب ہی موحد مومن تھے آپ کے سلسلہ نسب میں کوئی مشرک یا کافر نہیں۔

وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ (پارہ ۲۵، سورۃ البقرۃ، آیت ۲۲۱)

ترجمہ: اور بیشک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے۔

یہ مسئلہ قطعی ہے کہ مسلمان چاہے حسب نسب میں کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو وہ مشرک اعلیٰ قوم و اولیٰ نسب سے بدرجہا بہتر ہے۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا

بَعْثَتْ مِنْ خَيْرٍ قَرْوَنَ بَنِي أَدْمَ قَرْنَا فَقَرَنَا حَتَّىٰ كَنْتَ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كَنْتَ مِنْهُ۔

(رواہ البخاری عن ابی ہریرہ)

ہر قرن وطبقہ میں تمام قرون کے آدم سے بہتر بھیجا گیا ہوں یہاں تک کہ اس قرن میں ہوا جس سے پیدا ہوا

اب اس حدیث کو آئیہ مذکورہ سے ملا دیا جائے تو دعویٰ بالکل واضح ہو جائے گا کیونکہ آیت میں فرمایا گیا ہے

مشرک سے مومن غلام بہتر ہے

اور حضور ﷺ کے ارشاد سے پتہ چلا ہے کہ

میں خیر قرون سے ہوں

نتیجہ ظاہر ہے کہ میں (حضرت ﷺ) ایمان والوں کی پشت سے ہوں۔

حدیث شریف

حضرت اکرم ﷺ نے فرمایا

لَمْ يَذْلِلْ عَلَىٰ وَجْهِ الدَّهْرِ (الارض) سَبْعَةُ مُسْلِمِينَ فَصَاعِدًا فَلَوْلَا ذَالِكَ هَلَكَ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا

(اخراجہ عبدالرزاق وابن منذر بسنہ صحیح علیٰ شرط الشیخین)

روئے زمین پر ہر زمانے میں کم سے کم سات مسلمان رہے ہیں ایسا نہ ہوتا تو زمین والل زمین سب ہلاک ہو جاتے

اب ان دونوں حدیثوں کو صغیری کبریٰ کے طریق پر ملایا جائے تو نتیجہ (مطلوب) برآمد ہو گا اس لئے کہ اول حدیث میں صاف طور پر فرمایا گیا ہے کہ

میں خیر قرون سے ہوں

دوسری حدیث نے بتایا

روئے زمین پر ہمیشہ کم از کم سات مسلمان رہے ہیں

اور بمقتضیہ آئیہ مذکورہ مومن خیر میں مشرک سے یہ نتیجہ نکلا کہ حضور ﷺ کا نور ہمیشہ خیر سے خیر کی طرف منتقل ہوتا رہا اور چونکہ خیر مومن ہے مشرک و کافر نہیں اسی لئے حضور ﷺ کا نسب مومنین سے ہے مشرکین سے نہیں۔

کبریٰ واضح ہے صغیری کی طرف دلیل جس کی طرف امام جلیل جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد

فرمایا کہ

وَالْمَعْنَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَسْتَاهِلُ شَرْعًاً أَنْ يَطْلُقَ إِنَّهُ مِنْ خَيْرِ الْقَرْوَنَ

یعنی شرعاً کافر ہرگز اس کا اہل نہیں ہو سکتا کہ وہ خیر قرون سے ہو۔

خیر قرون مومن ہی ہو سکتا ہے لہذا حضور ﷺ کے حضور سب مومن ہی قرار پائے۔

(۳) إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (پارہ ۱۰، سورۃ التوبۃ، آیت ۲۸)

ترجمہ: مشرک نرے ناپاک ہیں۔

حدیث شریف

حضرت نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے

لَمْ أَذْلِلْ إِنْقَلَمْ مِنْ أَصْلَابِ الطَّاهِرِينَ إِلَىٰ أَرْحَامِ الطَّاهِرَاتِ

(رواہ ابو نعیم فی دلائل الدبوة عن ابن عباس رضی اللہ عنہما)

میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتیوں سے پاک بیبوں کے پیٹوں کی طرف منتقل ہوتا رہا
اب مندرجہ بالا آیت و حدیث کو آپس میں ملایا جائے تو مطلب بالکل واضح ہو جائے گا کیونکہ قرآن عظیم الشان
نے بلاشبہ مشرکین کے نجس ہونے کا فیصلہ فرمایا اور حدیث پاک میں حضور ﷺ نے اپنے آباء و امہات کو طیب و طاہر فرمایا
مشرکین نجس ہیں کبھی طاہر نہیں ہو سکتے اور حضور ﷺ کے اصول طاہر ہیں کبھی نجس نہیں ہو سکتے تو لازمی نتیجہ انکا کہ
حضور ﷺ کے آباء و اجداد امہات و جدات مؤمن و موحد تھے کبھی کافروں مشرک نہیں ہو سکتے۔

(۲) وَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (پارہ ۲۸، سورۃ المنافقون، آیت ۸)

ترجمہ: اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لئے ہے مگر منافقوں کو خبر نہیں۔

اس آیت کریمہ میں عزت و اکرام کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مومنین میں فرمایا اور کافر چاہے کیسا ہی اونچی قوم کا کیوں
نہ ہو ذلیل ولیم ظہرا۔ نبی کا کسی ذلیل ولیم کی پشت سے ہونا کوئی مدح نہیں حالانکہ اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے
حضور ﷺ کے مقامِ مدح میں نازل فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کے آباء و اجداد اشرف تھے اور اشرف کافروں
مشرک نہیں ہو سکتا بلکہ مؤمن و موحد ہی اشرف و اکرم ہو سکتا ہے۔

عقلی دلیل

کسی ذلیل و رذیل شخص پر نسب میں فخر کرنا عقل و عرف باطل ہے۔

تائید

لیکن نبی کریم ﷺ نے اپنے فضائل کریمہ کے بیان میں رجز اور مدح کے متعدد مرتبہ اپنے آباء کرام و امہات
طیبات کا ذکر فرمایا۔ جنگ خین میں جب کچھ دیر کے لئے کفار نے غلبہ پالیا اور چند لوگ ماہ رسالت میں باقی رہے تو
اللہ کے پیارے رسول پر جلالیت طاری ہو گئی فرمایا

انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ (رواہ احمد و بخاری، مسلم و نسائی عن براء ابن عازف رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

میں نبی ہوں کچھ جھوٹ نہیں میں بیٹا ہوں عبد المطلب کا

حضور ﷺ نے یہ رجز پڑھتے ہوئے سواری سے نزول فرمایا ایک مٹھی خاک دست مبارک میں لے کر کافروں کی
طرف پھینکی اور فرمایا

شاهدت الوجه

بگز گئے چہرے

وہ خاک سب کفار کی آنکھوں میں پہنچی اور سب کے منہ پھر گئے۔ بعض روایات میں رجز کا آخر ہے

انا ابن العواتک من بنی سلیم

یعنی میں بنی سلیم سے ان چند خواتین کا بیٹا ہوں جن کا نام عاتکہ تھا۔

بعض علماء کے نزدیک حضور ﷺ کے جدات میں نوبیوں کا نام عاتکہ تھا بعض کے نزدیک بارہ کا۔

بعض روایات میں حضور ﷺ نے اپنا نسب نامہ اپنے فضائل کریمہ میں اکیس پشتون تک بیان فرمایا ہے کہ میں سب سے نسب میں افضل باب میں افضل ہوں اور کسی مشرک یا کافر باپ دادا پر فخر کرنا نہ تو عقلاء جائز ہے نہ ہی عرف۔ تو یہ حضور ﷺ کے لئے کیونکر ممکن ہے کہ معاذ اللہ آپ مشرک یا کافر باپ دادا کے نسب پر فخر کریں تو بحکم نصوص ثابت ہوا کہ حضور ﷺ کے آباء و امہات مسلمین و مسلمات تھے۔ (وہو المطلوب)

(۵) إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ (پارہ ۱۲، سورہ حود، ایت ۳۶)

ترجمہ: وہ تیرے گھروالوں میں نہیں بیشک اس کے کام بڑے نالائق ہیں (تیرانا فرمان ہے)۔

آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومن و کافر کا نسب قطع فرمایا اور حدیث میں ہے

نَحْنُ بْنُ نُصَرَّ بْنِ كَنَانَةَ لَا مُنْفِيٌ مِنْ أَبِينَا (رواہ احمد و ابن ماجہ والطبرانی)

ہم نصر بن کنانہ کے بیٹے ہیں ہم اپنے باپ سے اپنا نسب جدا نہیں کرتے

اگر معاذ اللہ حضور ﷺ کے سلسلہ نسب میں کوئی کافر تھا یا مشرک تو باقی رکھنے اور ان پر فخر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن حضور ﷺ کے آباء و امہات سب مومن و موحد تھے لہذا ان پر فخر کرنا اور ان کا نسب باقی رکھنا اپنی جگہ بالکل درست اور بجا ہے اس میں کوئی قباحت نہیں۔

(۶) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنانے کے بعد دعا کی

وَمَنْ ذُرَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ (پارہ ۱، سورہ البقرۃ، ایت ۱۲۸)

ترجمہ: اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرمانبردار۔

فرمایا

رَبَّنَا وَأَبْعَثْتُ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ (پارہ ۱، سورہ البقرۃ، ایت ۱۲۹)

ترجمہ: اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول نہیں میں سے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا حضور ﷺ سے پوری ہوئی۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ مسلم جماعت سے پیدا ہوئے اور بالکل یہی ہمارا مقصود ہے۔

(۷) لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ (پارہ ۱۱، سورہ التوبۃ، ایت ۱۲۸)

ترجمہ: بیشک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول۔

ایک قراؤہ میں ”ف“ کی فتح کے ساتھ ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ تمہارے پاس یہ عظمت والے رسول نہیں ترین جماعت سے تشریف لائے اور کافر چونکہ نیس نہیں خیس ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کے اجداد ماجدین و جدات طاہرات اعلیٰ قسم کے مومن و موحد تھے وہ کفر و شرک کے تمام انواع سے پاک و مبراتھے۔

(۸) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ۝ وَ تَقْلِبَكَ فِي السُّجُدِينَ ۝ (پارہ ۱۹، سورۃ الشّرآء، ایت ۲۱۹-۲۱۷)

سورۃ الشّرآء، ایت ۲۱۷-۲۱۹

<http://www.alahazrat.net> ترجمہ: اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا مہر والا ہے۔ جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو۔

امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ حضور ﷺ کا نور پاک ساجدوں سے ساجدین کی طرف منتقل ہوتا رہا تو یہ آیت اس پر دلیل ہے کہ سب آباء مسلمین تھے۔ امام سیوطی وابن حجر و علامہ زرقانی نے اس تقریر کی تائید و توثیق فرمائی۔ یہ آیت مع تفسیر ہم نے ابتداء عرض کر دی ہے

(۹) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (پارہ ۳۰، سورۃ الحج، آیت ۵)

ترجمہ: اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔

نبی کریم ﷺ کی وجہت اجابت کا تو یہ عالم ہے کہ ان کے حق میں رب فرماتا ہے

سن رضیک فی امتك فلا نسوك به۔ (رواہ مسلم)

قریب ہے کہ ہم تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور تیرا دل بُدانہ کر دیں گے۔

امت کے بارے میں تو حضور ﷺ کی شفاعت رونہ فرمائے تو کیا والدین کے بارے میں حضور ﷺ کو یہ گوارا ہو گا کہ وہ معاذ اللہ جہنم میں رہیں۔

انتباہ

ابوطالب نے حضور ﷺ کی دعوت کا صاف انکار کیا اس لئے وہ کافر ہے۔

حدیث شریف

صحیح حدیث میں نبی کریم ﷺ نے ابوطالب کے بارے میں فرمایا

وَجَدَتْهُ فِي غُمَرَاتِ النَّارِ فَاخْرَجَتْهُ إِلَى الْصَّحْفَاحِ (رواہ البخاری و مسلم عن العباس عبد المطلب رضی اللہ عنہما)
میں نے ابوطالب کو سراپا آگ میں ڈوپا پایا تو کھینچ کر ٹخنوں تک آگ سے نکال دیا۔

حدیث شریف ۲

دوسری روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا کیا آپ سے ان کو کوئی فائدہ ہوا؟ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ہاں

ولولا ان لكان في الدرک الاسفل من النار

اگر میں نہ ہوتا تو ابوطالب جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوتا۔

دوسری حدیث میں ہے

اهون اهل النار عذاباً ابوطالب

دوزخیوں میں سب سے ہلاکا عذاب ابوطالب پر ہے۔

ازالہ وہم

حضور اقدس ﷺ سے جو قرب والدین کریمین کو حاصل ہے ابوطالب کو اس سے کوئی نسبت نہیں۔ پھر والدین

کریمین کا عذر بھی معقول کہ نہ تو انہیں دعوتِ اسلام پہنچی اور نہ ہی انہوں نے زمانہ نبوت پایا وہ دین فطرت پر تھے ان کے لئے عقیدہ توحید ہی کافی ہے۔ کسی ضعیف حدیث یا تاریخ سے ان کی طرف شرک کی نسبت ثابت نہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

(۱۰) وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبَعَثَ رَسُولًا (پارہ ۱۵، سورۃ الاسراء، ایت ۱۵)

ترجمہ: اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھج لیں۔

معلوم ہوا کہ جب والدین کریمین کو دعوت ہی نہیں پہنچی تو عذاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ حضرات دین ابراہیم پر تھے۔ حضور ﷺ کی والدہ ماجدہ نے جوا شعار بوقت رحلت ارشاد فرمائے ان سے اُن کے ایمان کی دلیل ملتی ہے۔ جب والدہ ماجدہ نے اپنے فرزند جلیل سید المرسلین کے چہرہ انور پر حسرت بھری نظر کی اور ان کی تیمی کا خیال آیا تو فرمایا

يَا أَبْنَى الَّذِي مِنْ حَرَمَةِ الْحَمَامِ
فُودِي عَدَةً أَنْضَرْ بِالسَّهَامِ
وَانْ صَحْ مَا بَصَرْتَ فِي الْمَنَامِ
تَبَعَثْ فِي الْحَلِّ وَالْحَرَامِ
دِينَ أَبِيكَ الْبَرَّ أَبِرَاهِيمَ
أَنْ لَا تَوَلِّهَا مَعَ الْأَقْوَامِ

بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ مِنْ غَلامَ
كَالْعُونِ الْمَلِكِ الْمَنَامَ
بِمِائَةٍ مِنَ الْأَبْلِ السَّوَامَ
فَانْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامَ
تَبَعَثْ فِي التَّحْقِيقِ وَالْإِسْلَامِ
فَإِنَّ اللَّهَ انْهَاكَ عَنِ الْأَصْنَامِ

ترجمہ

اے سترے لڑکے اللہ تجھ میں برکت رکھے۔ اے بیٹے ان کے جنہوں نے موت کے گھر سے نجات پائی۔ بڑے انعام والے بادشاہ اللہ عزوجل کی مدد سے جس صبح کو قرعداً لاگیا سوبنداونٹ ان کے فدیہ میں قربان کئے گئے۔ اگر وہ ٹھیک ٹھہرا جو میں نے خواب میں دیکھا ہے تو تو سارے جہاں کی طرف پیغمبر بنایا جائے گا جو تیرے نیکو کار باب پ ابراہیم کا دن ہے۔ میں اللہ کی قسم دے کر تجھے بتوں سے منع کرتی ہوں کہ قوموں کے ساتھ ان کی دوستی نہ کرنا۔

حضرت آمنہ خاتون کی اس مبارک وصیت میں جو فراق دنیا کے وقت اپنے ابن کریم علیہ السلام کو کی توحید و رشک آفتاب سے زیادہ روشن ہے اور اس کے ساتھ ملت ابراہیم کا بھی پورا اقرار و ایمان ہے اور وہ بھی بیان بعثت عامہ کے ساتھ۔ (الحمد للہ علی ذالک)

(۱۱) إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (پارہ ۸، سورۃ الانعام، ایت ۱۲۳)

ترجمہ: اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے۔

رب العزت سب سے زیادہ معزز و محترم جگہ وضع رسالت کے لئے اختیاب فرماتا ہے لہذا کبھی کم قوموں رزیلوں میں رسالت نہیں رکھی پھر کفر و شرک سے زیادہ رزیل کون سی چیز ہو سکتی ہے وہ کیونکہ اس قابل ہو کہ اللہ عزوجل نور رسالت اس میں ودیعت رکھے۔ کفار محل غصب و لعنت ہیں اور نور رسالت کے وضع کو محل رضا و رحمت درکار ہے تو معلوم

ہوا کہ حضور ﷺ کا نور اصلاح طیبہ سے ارحام طاہرہ کی طرف گردش کرتا ہوا حضرت عبداللہ اور آمنہ خاتون کے درمیان ہوا وہ سب کے سب کفروں کا شرک اور الحاد و بے دینی کی آلودگیوں سے پاک و منزہ تھے۔

(۱۲) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمُ شَرُّ الْبَرِيَّةِ
۵۰ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاةَ أُولَئِكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (پارہ ۳۰، سورۃ البینہ، آیت ۶، ۷)

ترجمہ: بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔

ثبت از حدیث شریف

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا

انا محمد بن عبد اللہ بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نزار بن معد بن عدنان بن ماجہ بن عدنان بن مافتہ الناس فرقین الا جعلنی اللہ فی خیرها فخر جت من بین ابی فلم يصبني شيئاً من عهد الجاهلية وخرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن ادم حتى التهیت
الى ابی و امی فانا خیر کم نسباً و خیر کم اباً۔

میں ہوں محمد بن عبد اللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نزار بن معد بن عدنان۔ لوگ دو گروہ نہ ہوئے مگر یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہتر گروہ میں کیا تو میں اپنے ماں باپ سے اس طرح پیدا ہوا کہ زمانہ جاہلیت کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچی اور میں خالص نکاح سے پیدا ہوا۔ آدم سے لے کر اپنے ابوین تک تو میرا نفس کریم سب سے افضل اور میرے باپ تم سب کے آباء سے بہتر۔

آیت مندرجہ بالا میں رب العزت نے کفار اور مشرکین کو شر البریہ فرمایا اور حضور ﷺ نے فرمایا
انما خیر کم اباً و نفساً

میں تم میں سے ذات اور باپ کے اعتبار سے اچھا ہوں

جس سے آفتاب نیم روز سے مطلوب زیادہ روشن ہوا کہ سلسلہ نبوی میں کافر مشرک داخل نہیں ورنہ حضور ﷺ کا خیراب ہونا کس طرح ثابت ہو سکتا ہے۔

اقوال علماء

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی و دیگر محدثین فرماتے ہیں

ان اباء النبی ﷺ غیر الانبياء امهاته الى ادم و حوالیس فيهم كافر لانه يقال فيه حقه انه مختار ولا كريم ولا ظاهر بلا نجس وقد صرحت الاحاديث بأنهم مختارون وان الاباء كرام ولا مهات طاهرات وايضاً قال تعالى وتقلبك في الساجدين على احد التفاسير فيه ان المراد نقل نوره من

ساجد الی اساجد۔ الخ

یعنی نبی کریم ﷺ کے سلسلہ نسب میں جتنے انبیاء ہیں وہ تو انبیاء ہی ہیں ان کے علاوہ حضور ﷺ کے جس قدر آباء و امہات آدم و حواتک ہیں ان میں کوئی کافرنہ تھا کہ کافر کو پسندیدہ یا کریم یا پاک نہیں کہا جا سکتا اور حضور ﷺ کے آباء و امہات کی نسبت حدیثوں میں تصریح کی گئی ہے کہ وہ سب پسندیدہ بارگاہ الہی ہیں۔ آباء سب کرام مائیں سب پاکیزہ ہیں اور آیہ کریمہ و تقلیب فی الساجدین کی بھی ایک تفسیر یہی ہے کہ نبی ﷺ کا نور ایک ساجد سے دوسرے ساجد کی طرف منتقل ہوا۔

اب اس سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ حضور ﷺ کے والدین کریمین اہل جنت ہیں کیونکہ ساجد مشرک و کافر نہیں ہوتے مومن و موحد ہی ہوتے ہیں۔

سوال

قرآن کریم نے آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتایا ہے حالانکہ وہ بت تراش تھے اور مشرک بھی تو حضور ﷺ کے سلسلہ نسب میں مشرک آگیا

جواب

مفسرین و اہل تاریخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا باپ نہیں تھا۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث موجود ہے کہ

علم الرجل صنوابیہ

آدمی کا چچا اس کے باپ کے بجائے ہوتا ہے

نیز قرآن کریم میں صریح آیت موجود ہے کہ جس میں چچا کو باپ کہا گیا ہے اس کی مزید تحقیق کے لئے فقیر کا رسالہ پڑھئے ”کیا آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا“

سوال

روایات سے ثابت ہے کہ حضور ﷺ کے والدین کو زندہ کیا گیا اور وہ حضور ﷺ پر ایمان لائے اس سے ثابت ہوا کہ آپ کے والدین کفر کی حالت میں مرے۔

جواب

اولاً تو اس حدیث سے حضور ﷺ کے والدین کا ایمان ثابت ہے جو لوگ اب بھی ایمان کے قائل نہیں جواب تو ان کو دینا ہوگا۔ یہ حدیث ہمارے مقصد کے خلاف نہیں نیز حضور ﷺ کے والدین کا دوبارہ زندہ کیا جانا اور ایمان لانا معاذ اللہ اس لئے نہیں تھا کہ وہ کافر تھے۔ ان کا کفر تو کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں بلکہ ان کو اس لئے زندہ کیا گیا کہ وہ حضور ﷺ پر ایمان لا کر حضور اکرم ﷺ کے شرف صحابیت سے مشرف ہو کر خیر الامم میں داخل ہو جائیں۔ ان کا زندہ کرنا اور حضور ﷺ پر ایمان لانا مزید انعام و اکرام کے لئے تھا ورنہ وہ تو پہلے ہی ملت ابراہیمی پر تھے جس طرح گذشتہ قصیدہ میں ثابت ہو چکا ہے۔

ثانیاً ایمان کی تجدید مراد ہے اس لئے کہ ان کا اہل توحید سے ہونا ہی ان کی نجات کے لئے کافی ہے اس لئے کہ وہ احکام کے مکلف ہی نہیں تھے جس طرح کہ پہلے گزر چکا ہے۔

سوال

حضور نے ایک صحابی سے فرمایا

ابی وابک هما فی النار

میرا باپ اور تمہارا باپ دوزخ میں ہیں

جواب

(۱) باپ سے مراد ابو طالب آپ کا چچا ہی ہے ورنہ اس حدیث کے مقابلے میں جو آیات قرآنیہ اور احادیث نبوی ہیں ان کا کیا جواب ہوگا۔

(۲) حضور ﷺ کو استغفار سے بھی رب العزت نے اس لئے منع فرمایا کہ آپ کے والدین گنہگار تھے ہی نہیں استغفار تو گنہگاروں کے لئے ہوتا ہے اور گنہگار وہ شخص ہے جس کو یا رسول دعوت توحید و احکام دے اور وہ شخص اعراض کرے حضور ﷺ کے والدین کے لئے یہ دونوں امر ثابت نہیں۔

سوال

فقہا کبری میں ہے

ماتا علی الکفر

یعنی ان کی موت کفر پر ہوئی۔ (معاذ اللہ)

جواب

اول تو یہ مسئلہ اجتہادی نہیں کہ ہم اس میں کسی امام کی پیروی یا تقلید کریں۔ دوم فقہا کبر کی عبارت مادل یعنی

ماتا علی عهد الکفر

حضور ﷺ کے والدین کا انتقال عہد کفر میں ہوا

اور یہ مسلم ہے اس سے انکار نہیں۔ سوم یہ عبارت

ماما ماتا علی الکفر

تھی جیسا کہ اصل کتاب میں ہے۔ چہارم یہ عبارت بعض نسخوں میں سرے سے موجود ہی نہیں تو ہمیں اس عبارت کے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں۔

ایک اور طریقہ

مذکورہ بالاقریر ہے جسے صاحب روح البیان نے بیان فرمائی اور فقیر نے اسے حاشیہ چڑھا کر اس کی تفصیل عرض کر دی ہے اس کے متعلق مزید تقاریر فقیر کی تصنیف ”ابوین مصطفیٰ ﷺ“ میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں مزید ایک اور تقریر جسے صاحب روح البیان نے اپنی تفسیر کے پارہ اول میں بیان فرمائی ہے وہ حاضر ہے

رانجح اور صحیح یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ کا نسب شریف کفر کی گرد و غبار سے پاک ہے۔ اگرچہ قریش میں بتولی پر ستش عام تھی لیکن خلیل علیہ السلام کی دعا

وَاجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (پارہ ۱۳، سورہ ابراہیم، آیت ۳۵)

ترجمہ: اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتول کے پوجنے سے بچا۔

معلوم ہوا کہ وہ بتول کی پرستش کے مرتكب نہیں ہوئے۔ دوسری آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے

وَ جَعَلَهَا كَلِمَةً ۝ بَاقِيَةً (پارہ ۲۵، سورہ الزخرف، آیت ۲۸)

ترجمہ: اور اسے اپنی نسل میں باقی کلام رکھا۔

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرک سے دور تھے۔

احیاء الابوین

اہل سنت متاخرین ابوین مصطفیٰ ﷺ کے مومن و موحد ہونے کی ایک دلیل یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ ﷺ نے زندہ کر کے اپنی امت میں داخل فرمایا۔ اس کی تفصیل فقیر نے رسالہ بغتہ الفحول فی ایماء اصول الرسول (عربی) میں عرض کر دی ہے۔ سردست چند دلائل ملاحظہ ہوں

(۱) حدیث شریف

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ جب ہماری ساتھ ججۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو آپ قصبة الحجون سے گزرے اور آپ غمگین ہو کر آنسو بہانے لگے۔ آپ کو دیکھ کر میری آنکھیں بھی پر نم ہو گئیں آپ اونٹ سے اترے اور فرمایا اے حمیرا (عائشہ) ذرا رُ کیے! میں وہاں ٹھہر گئی۔ آپ تادریز وہاں ٹھہرے رہے آخر آپ تمسم فرمائے ہوئے واپس تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا! آپ پر میرے ماں باپ قربان آپ پہلے یہاں غمگین ہوئے گریہ فرمایا آپ کو دیکھ کر میرے بھی آنسو بہہ نکلے لیکن جب آپ لوٹے ہیں تو مسرور تمسم، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کو دیکھا تو رودیا میں والدہ آمنہ کی قبر پر گیا اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ میری والدہ ماجدہ کو زندہ کر دے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا اور انہوں نے میرا کلمہ پڑھا۔

انتباہ

اگرچہ یہ حدیث سند ضعیف ہے لیکن با تقاضہ علمائے اسلام فضائل مصطفیٰ ﷺ میں قابل قبول ہے۔

(۲) حضرت حافظ شمس الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا

(۱) حبا اللہ نبی مزید فضل

علیٰ فضل و کان بہ رؤفا

(۲) فاحیا امہ و کذا اباً

لایمان بہ فضلاً لطیفاً

وان کان الحدیث بہ ضعیفا

ترجمہ

- (۱) اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ پر بڑا فضل کیا اور وہ ان کے لئے بڑا حیم ہے۔
- (۲) ان کی خاطران کی والدہ اسی طرح والد کو زندہ کیا تاکہ آپ پر ایمان لا سیں یہ بہت بڑا فضل ہے۔
- (۳) یہ مان لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر ہے اگرچہ یہ مسئلہ حدیث ضعیف سے ثابت ہے۔

مسئلہ

الاشاہ والنظراء میں ہے کہ جو بھی کفر پر مرے اُس پر لعنت بھیجنا جائز ہے مگر حضور ﷺ کے والدین پر لعنت نہ کی جائے کیونکہ ان کا زندہ ہو کر اسلام لانا حدیث سے ثابت ہے۔ (کذافی مناقب الکردی)

ایمان ابوین مصطفیٰ ﷺ کا معجزہ

حضور ﷺ نے ایک دن اپنے والدین کی قبروں پر بہت گریہ فرمایا اس کے بعد آپ نے قبروں پر خشک درخت کھڑا کر دیا اور فرمایا اگر یہ درخت بزر ہو گیا تو ان کے ایمان کی نشانی ہے اور اگر خشک رہا تو ان کے کفر کی علامت ہے خدا کی شان وہ درخت بزر ہو گیا۔ وہ حضرات قبر سے باہر نکلے یہ حضور ﷺ کی دعا کا نتیجہ تھا وہ زندہ ہوتے ہی حضور ﷺ پر ایمان لا کر اپنی اپنی قبروں میں واپس چلے گئے۔ (روح البیان)

عقلی دلائل

(۱) حضرت شیخ شہیر بافتادہ آفندی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ یہی قول صحیح ہے کیونکہ آپ ﷺ کے والد ماجد کا نام عبد اللہ تھا اور لفظ اللہ کسی بت کا علم نہیں تھا کیونکہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے مخصوص علم میں سے ہے جاہلیت میں ان بتوں کے نام لات وعزی وغیرہ تھے۔

(۲) ان حضرات کا زندہ ہونا نہ عقل ممتنع ہے نہ شرعاً کیونکہ قرآن شریف میں بنی اسرائیل کے مقتول کا زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتانا ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اسی طرح ہمارے نبی کریم ﷺ نے بھی مردے زندہ فرمائے۔ جب یہ ثابت ہے تو پھر آپ کے والدین کا زندہ ہو کر اسلام لانے میں کون سا اشکال ہے بلکہ یہ تو حضور ﷺ پر مزید لطف و کرم کی دلیل ہے۔

سوال

حدیث شریف میں ہے کہ حضور ﷺ ایک مرتبہ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ خود بھی خوب روئے اور ساتھ والوں کو بھی رُلا یا۔ پھر فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے استغفار کی اجازت چاہی تو مجھے روکا گیا پھر میں نے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت چاہی تو قبر کی اجازت مل گئی اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا قبور کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ موت کو یاد دلاتی ہے۔

جواب ۱

یہ حدیث مذکورہ عبارت سے پہلے یعنی حدیث حجۃ الوداع کے موقع سے پہلے کی ہے اور آپ ہرگزی اعلیٰ درجات کو پہنچتے رہے یہاں تک کہ وصال شریف تک بڑے اوپرے درجات آپ نے طے فرمائے ممکن ہے کہ یہ درجہ بھی اسی میں حاصل ہوا ہو۔

جواب ۲

استغفار سے منع ابوین کے ایمان کی لفی نہیں کرتا جیسا کہ اصول کا مسلم قاعدہ ہے۔ مزید جوابات اور تفصیل و تحقیق فقیر کے رسالہ ”ابوین مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ“ میں پڑھئے۔

سوال

جب کافر کا ایمان موت کے معائنہ کے وقت غیر قابل قبول ہے پھر مرنے کے بعد ایمان لانا کیسے قبول ہو سکتا ہے؟

جواب

معائنہ موت کا ایمان خوف کی وجہ سے ہوتا ہے اسی وجہ سے ناقابل قبول ہے البتہ موت کے بعد زندہ ہونے میں خوف کا ہے کا؟ چنانچہ

ولور دولعادو والمانہ عنہ

آیت قرآنی سے بھی ثبوت ملتا ہے۔ آیت کی تفسیر فقیر کی تفسیر فیوض الرحمن ترجمہ روح البیان پارہ نمبرے پڑھئے۔

اصحابِ کھف کے دوبارہ زندہ ہونے سے استدلال

حضور ﷺ کے والدین قبور سے زندہ ہو کر آپ ﷺ کی امت میں شامل ہوں گے اس کی نظریہ شریعت میں موجود ہے وہ اصحابِ کھف کا قبور سے نکال کر امت مصطفیٰ ﷺ میں شمولیت۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ اصحابِ کھف رحمہم اللہ تعالیٰ آخر زمانے میں اپنی قبور سے اٹھائے جائیں گے۔ وہ حج پڑھیں گے اور وہ اسی امت میں شمار ہوں گے یہ ان کی شرافت و کرامت سے ہوگا۔ دوسری مرفاع حدیث میں ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مددگاروں میں سے یہی اصحابِ کھف ہوں گے اور جو کچھ اصحابِ کھف اس زندگی میں عمل کریں گے ان کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے والدین کی تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ ان کی عمر اتنی ہو گی لیکن وقت سے پہلے انہیں موت دیجایا گی پھر ان کی بقا یا عمر اسی لحاظ میں شمار ہو۔ یہ فاصلہ جوان کے مرنے اور پھر اٹھنے تک کا ہے صرف نبی اکرم ﷺ کی کرامت کے لئے ہو تو کچھ بعد نہیں جیسے اصحابِ کھف کو اس مدت کے لئے مؤخر کر کے زندہ کیا گیا صرف ان کی شرافت و کرامت کے پیش نظر ہے تاکہ وہ حضور ﷺ کے امتی ہونے کے شرف سے مشرف ہوں۔

مشورہ اویسی غفرانہ

اگر کسی کو دلائل سے سمجھنہ بیس آتا تو وہ خاموش رہے جیسا کہ

فائدہ

خاتم الحفاظ والحمد شیں امام سحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک آپ کے والدین کے متعلق توقف کا ہے چنانچہ مقاصد حسنہ میں حضرت حافظ شمس الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر نہ کو نقل کر کے فرمایا کہ اس مسئلہ پر میں نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے لیکن میرا مسلک اس میں ہے کہ حضور ﷺ کے والدین کریمین کے ایمان و کفر کے متعلق توقف ہے۔

حضرت ﷺ کے والدین کو کافروں جہنمی

کہنے والے کو وعید شدید

کوئی خاموشی کے بجائے زبان درازی کرتا ہے تو اس لئے سننے

فائدہ

حضرت قاضی ابو بکر ابن العربي رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مالکی مسلک کے امام ہیں آپ سے سوال ہوا کہ آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو حضور ﷺ کے آباء و اجداد کے متعلق کہتا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص ملعون ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (پارہ ۲۲، سورۃ الحزاب، ایت ۵۷)

ترجمہ: پیشک جو ایذہ ادیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔

حدیث شریف

حدیث شریف میں ہے کہ

لَا تُؤْذُوا الْحَيَاءَ بِسَبِّ الْأَمْوَاتِ

زندہ لوگوں کو ان کے مردوں کی وجہ سے ایذہ اندو۔

فائدہ

حضرت امام رستمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو کہتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو آپ کا سارا جسم سیاہ ہو گیا۔ پھر جب آپ زمین پر اُترے تو آپ کو نماز اور روزے کا حکم ہوا۔ آپ نے نماز اور روزہ ادا فرمایا پھر آپ کا جسم سفید ہو گیا اس کا یہ قول صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اننبیاء علیہم السلام کے حق میں ایسے قول نہ کہے جائیں کہ جن میں ان کا عیب یا نقص نمایاں ہو۔ ہم ان کے متعلق خاموشی پر مامور ہیں کیونکہ ان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں۔ نبی اکرم ﷺ تو اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ

جب میرے صحابہ کا ذکر تمہارے سامنے نقص و عیب کے ساتھ آئے تو تم خاموش رہو

جب ہم حضور ﷺ کے صحابہ کے بارے میں کف لسان کے حکم کے پابند ہیں تو پھر اننبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق بطریق اولیٰ ہے کہ خاموشی سے کام لیں۔

مسلمان پر لازم ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے نسب کے متعلق جو امور خلل اور عیب پر دلالت کریں اُن پر زبان درازی نہ کرے کیونکہ یہ مسائل ایسے اعتقادیات سے نہیں کہ جن سے کوئی فائدہ ہو۔ زبان کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ جس میں نقش و عیب کی بات ہو زبان کو بند رکھا جائے خصوصاً ایسی باتیں جن کا عوام میں پھیلنے سے ایسا خطرہ ہو کہ پھر ان کو سننے والا مشکل ہو جائے۔ یہ وہ بیان شافی ہے جو میں نے مختلف کتابوں سے چن کر عرض کر دیا ہے اور ہر مسئلے کی نظر بھی پیش کر دی ہے۔ (روح البیان)

انتباہ اویسی غفرله‘

دور حاضر میں انبیاء علیہم السلام بالخصوص حضور ﷺ اور آپ کے تابعین صحابہ کرام اور اہل بیت عظام اور اولیاء کرام کی گستاخی کو معمولی بات سمجھا جاتا ہے۔ عوام پھر بھی احتیاط کرتے ہیں لیکن پڑھے کہ لوگ بالخصوص مولوی، قاری، حافظ اس مرض میں مبتلا ہیں بلکہ ایک گروہ کا مشغله بھی یہی ہے کہ وہ بات بات پر گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ عوام سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے حالانکہ ان حضرات کے بارے میں چھوٹی سی بات بھی کفر تک پہنچادیتی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہے۔ فقیر نے ان کے فیض سے رسالہ لکھا ہے ”گستاخی کیا ہے؟“

حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اس رسالہ کی تصنیف کا سبب یہ ہوا کہ دو شخصوں کا آپس میں جھگڑا ہوا اور خوب گالی گلوچ بکیں۔ بالآخر ایک نے دوسرے کے نسب پر حملہ کیا تو دوسرے نے کہا کہ ”اے چرواہے کے بچے، اس کے باپ نے کہا کہ یہ نسبت صرف میری ہے کیا حضرات انبیاء علیہم السلام چرواہے نہیں تھے بلکہ کوئی بھی نبی علیہ السلام ایسا نہیں ہوگا جس نے بکریاں نہ چڑائی ہوں۔

یہ واقعہ جامع مسجد طولوںی کے قریب بازارِ غزل میں عوام کے مجمع میں ہوا۔ ان کا مقدمہ حکام وقت کی خدمت میں پیش کیا گیا جب قاضی القضاۃ مالکی کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا

لورفع الی ضربته بالسیاط

یعنی اگر یہ مقدمہ میرے ہاں پیش ہوتا تو میں قائل کو درے لگوںتا

مجھ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو میں نے جواب دیا کہ ایسے شخص کو سزا دیجائے کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام اس لاٽ نہیں کہ کسی عام آدمی سے ان کی مثال دیجائے۔

میرے فتویٰ کو مرتب دیکھ کر ایک شخص بول اٹھا کہ علامہ سیوطی کا یہ فتویٰ غلط ہے کیونکہ ایسے شخص کو نہ تعزیر ہے اور نہ ہی اُس پر کوئی ملامت ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی ایک عام آدمی سے تشبیہ دینا ایک مباح امر ہے فلہذہ اس کا قائل نہ گنہگار ہے اور نہ اسے گناہ کی طرف منسوب کیا جائے۔ مجھے اس سے خطرہ ہوا کہ عوام کو جب ایسے کلام کے جواز کا علم ہوا تو وہ اپنے عام جھگڑوں میں ایسی گستاخیاں کر دیں گے کہ پھر وہ ان کی ایک عام عادت بن جائے گی جس کی وجہ سے وہ دین سے خارج ہو جائے گے صرف دین کی خیرخواہی اور مسلمانوں کی رہبری کو مد نظر رکھ کر یہ چند سطور لکھ دیں۔

سب سے پہلے قاضی عیاض الدین کا وہ بیان لکھ دوں جنہوں نے اس مسئلہ میں تحریر فرمایا جو نہایت ہی شاندار بیان ہے اور حق یہ ہے کہ بہت ہی خوب لکھا ہے

کماقال الوجه الخامس الخ

(۱) کسی نبی علیہ السلام کی شان کی کمی کا ارادہ نہ ہو۔

(۲) ان کا کوئی عیب بیان نہ کیا جائے۔

(۳) انہیں گالی نہ دیجائے۔

شریعت میں مندرج صورتیں بھی انبیاء علیہم السلام کے معاملات کو اپنے اوپر چھپا کرنا حرام ہے مثلاً

(۱) انبیاء علیہم السلام کے بعض اوصاف بیان کر کے مثال کے طور پر اپنے لئے جحت یا دوسرے کے لئے جحت بنائے جبکہ وہ امور انبیاء علیہم السلام بحیثیت دینی امور کے اظہار کے لئے کئے یا ان کی اسی طرح تکمیل ضروری تھی۔

(۲) کسی کام کو انہوں نے کرنے کے طور کیا۔

(۳) یا کسی مقصد اسلامی کے پیش نظر اپنے آپ کو بلند وارفع ظاہر فرمایا حالانکہ دوسروں کو جائز نہیں۔ اسی طرح مثلاً کوئی کہے کیا ہوا میرے حق میں ایسا ویسا کہا گیا نبی علیہ السلام کو بھی تو کہا گیا تھا۔

(۴) یا یوں کہے کہ اگر میری تکذیب ہوئی تو کوئی بات نہیں انبیاء علیہم السلام کی بھی تو تکذیب ہوئی تھی۔

(۵) یا یوں بکواس کرے کہ میں نے گناہ کر لیا تو کیا حرج ہے جبکہ انبیاء علیہم السلام نے بھی تو گناہ کئے تھے۔

(۶) یا یوں کہے کہ میں لوگوں کی ندامت سے کب نج سکتا ہوں جبکہ انبیاء علیہم السلام بھی نہ نج سکے۔

(۷) یا یوں کہے کہ میں فلاں مصیبت سے صبر کر رہا ہوں جیسے اول العزم پیغمبروں علیہم السلام نے صبر کیا۔

(۸) یا کہے کہ ایسے صبر کرتا ہوں جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا۔

(۹) یا کہے کہ میرا صبر کرنا حضور ﷺ کی طرح صبر کرنا ہے انہوں نے بھی دشمنوں کی دشمنی پر صبر کیا تھا بلکہ اس سے کچھ زیادہ حوصلہ فرمایا جیسے میں حوصلہ کر رہا ہوں۔ جیسے متنبی کا شعر ہے

انا في امتى تدار كها الله غريب لصالح فى ثمود

میں ایسی قوم میں غریب ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اچھا کرے جیسے حضرت صالح علیہ السلام ثمود میں غریب تھے جیسے مصری شاعر کا قول ہے کہ

غير ان ليس فيكما من فقير

كنت موسى وزفته بنت شعيب

وغیرہ وغیرہ فقیر کی اس موضوع پر ایک تصنیف "گستاخ کا انجام بد" ہے اس میں اسی رسالہ "تنزیہ الانبیاء عن تنبیہ الاغبیاء" کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔

انتباہ از صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ

آپ لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس قدر نازک ہے کہ اگر احتیاط ہاتھ سے نکل جائے تو ایمان سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ کیا حضور ﷺ کے والدین ماجدین کے کفر کے متعلق بات کرنا کوئی آسان بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَالَّذِينَ يُؤْذُنَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَكِيمٌ (پارہ ۱۰، سورۃ التوبۃ، ایت ۶۱)

ترجمہ: اور وہ جو رسول اللہ ﷺ کو ایذ کر دیتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

آخری گزارش

عقلمند کو چاہیے کہ ایسی پُر خطر جگہ پر احتیاط سے کام لے۔

☆ ججۃ الاسلام امام غزالی نور اللہ مرقدہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کسی مسلمان کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت جائز نہیں جب تک یہ یقین سے ثابت نہ ہو کفر کی نسبت کا معاملہ تو بہت ہی دشوار ہے۔

☆ امام اعظم ابوحنیفہ کے قول سے سبق لیا جائے فرماتے ہیں اگر کسی میں ننانوے احتمالات کفر کے ہوں اور ایک ایمان کا تواں کے لئے بھی کفر کی نسبت کرنا جائز نہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلدین کے پاس امام صاحب کے ارشاد کا کیا جواب ہے

هَاتُوا بُرُّهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ (پارہ ۱، سورۃ البقرۃ، ایت ۱۱۱)

ترجمہ: لا اپنی دلیل اگر سچ ہو۔

تو کیا تمہارا ایمان گوارا کرتا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے ادنیٰ غلاموں کے ساتھ سگان درگاہ جناتِ نعیم میں داخل ہوں اور جن کے نعلین کے تصدق جنت بنی ان کے ماں باپ دوسرا جگہ معاذ اللہ غصب و عذاب میں بٹلا ہوں۔ کیا آمنہ خاتون حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کم ہیں کیا یہ آپ کو پسند ہو گا کہ حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہم السلام تو اپنی والداؤں کو جنت میں دیکھیں اور محبوب کی والدہ وہاں نظر نہ آئیں۔

زندہ معجزہ اور اہل سنت کی تائید

حضور نبی کریم ﷺ کے والد حضرت عبد اللہ بن عبد المطلب کا جسد مبارک جس کو دفن کئے چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے بالکل صحیح و سالم حالت میں برآمد ہوا۔ علاوہ ازیں صحابی رسول حضرت مالک بن سنان کے علاوہ دیگر چھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجسام مبارک بھی اصل حالت میں پائے گئے جنہیں جنت البقیع میں نہایت عزت و احترام کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ جن نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کا کہنا ہے کہ مذکورہ صحابہ کے جسم نہایت تروتازہ اور اصلیٰ حالت میں تھے۔ (روزنامہ جنگ لاہور ۲۰ جنوری ۱۹۸۰)

نوٹ

فقیر نے اس خبر کو تفصیل کے ساتھ صدائے نوی شرح مشنوی میں لکھ دیا ہے۔

تبصرہ برائی حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کو چودہ سو سال سے بھی زائد گزر چکے ہیں اس کے باوجود قبر میں آپ کے جسم کی تروتازگی نہ صرف آپ کے مومن ہونے کی دلیل ہے بلکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ولی اللہ تھے

کیونکہ کافروں کا جسم تو قبر میں تھوڑے عرصے کے بعد مٹی بن جاتا ہے اور فاسق مومن کا جسم بھی مٹی ہی مٹی ہو جاتا ہے اس لئے فقهاء کرام حبہم اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کی نمازِ جنازہ کسی وجہ سے نہیں پڑھی جا سکتی تو تمین دن تک اس کی قبر پر اس کی نمازِ جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اس کے بعد نہیں۔ اس لئے کہ تمین دن تک مردہ کا جسم صحیح حالت میں رہتا ہے اور تمین دن گزرنے کے بعد مردہ کا جسم پھٹ جاتا ہے۔

اسلامی عقیدہ

انبیاء علیہم السلام کے اجسادِ مبارکہ مزارات میں صحیح سالم مع ارواح موجود ہوتے ہیں گویا ان کی حیات قبور میں حیاتِ حسی ہوتی ہے اور اولیاء کرام اور بعض اہل ایمان کے اجسام بھی قبور میں محفوظ ہوتے ہیں چنانچہ بارہا اس کا مشاہدہ ہوا اس کی تفصیل فقیر کی تصنیف "اخبار القبور" میں پڑھئے۔

فقط والسلام

مدینے کا بھکاری

الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

بہاول پور۔ پاکستان

۸ جمادی الآخر ۱۴۲۳ھ بروز شنبہ (منگل) قبل صلوٰۃ العصر

